

ARABIC VERB CONJUGATOR

وَقَى
يَقِي

Protect

VERBAL NOUN (MASDAR)

وَقَايَةٌ

حفاظت / بچاؤ

Root: وق ي

PAST	وَقَى اس نے بچایا	PRESENT	يَقِي وہ بچاتا ہے	MASDAR	وَقَايَةٌ حفاظت / بچاؤ	ISM FA'IL	وَأَقِي بچانے والا	ISM MAFOOL	مَوْقِيٌّ بچایا ہوا
------	----------------------	---------	----------------------	--------	---------------------------	-----------	-----------------------	------------	------------------------

PAST TENSE

الماضي

الضمير	الفعل	الضمير	ترجمہ
هُوَ	وَقَى	وہ (ایک مرد)	اس ایک مرد نے بچایا
هُمَا	وَقَيَا	وہ (دو مرد)	ان دو مردوں نے بچایا
هُمْ	وَقَوْا	وہ (سب مرد)	ان سب مردوں نے بچایا
هِيَ	وَقَتْ	وہ (ایک عورت)	اس ایک عورت نے بچایا
هُمَا	وَقَتَا	وہ (دو عورتیں)	ان دو عورتوں نے بچایا
هِنَّ	وَقِينَ	وہ (سب عورتیں)	ان سب عورتوں نے بچایا
أَنْتَ	وَقَيْتَ	تم (ایک مرد)	تم ایک مرد نے بچایا
أَنْتُمَا	وَقَيْتُمَا	تم (دو مرد/عورتیں)	تم دونوں نے بچایا
أَنْتُمْ	وَقَيْتُمْ	تم (سب مرد)	تم سب مردوں نے بچایا
أَنْتِ	وَقَيْتِ	تم (ایک عورت)	تم ایک عورت نے بچایا
أَنْتُمَا	وَقَيْتُمَا	تم (دو عورتیں)	تم دونوں عورتوں نے بچایا
أَنْتِمْ	وَقَيْتُمْ	تم (سب عورتیں)	تم سب عورتوں نے بچایا
أَنَا	وَقَيْتُ	میں	میں نے بچایا
نَحْنُ	وَقَيْنَا	ہم	ہم نے بچایا

PRESENT / FUTURE

المضارع

الضمير	الفعل	الضمير	ترجمہ
هُوَ	يَقِي	وہ (ایک مرد)	وہ ایک مرد بچاتا ہے
هُمَا	يَقِيَانِ	وہ (دو مرد)	وہ دو مرد بچاتے ہیں
هُمْ	يَقُونَ	وہ (سب مرد)	وہ سب مرد بچاتے ہیں

ترجمہ	ضمیر	الفعل	الضمیر
وہ ایک عورت بچاتی ہے	وہ (ایک عورت)	تَقِي	هِيَ
وہ دو عورتیں بچاتی ہیں	وہ (دو عورتیں)	تَقِيَانِ	هُمَا
وہ سب عورتیں بچاتی ہیں	وہ (سب عورتیں)	يَقِيْنَ	هُنَّ
تم ایک مرد بچاتے ہو	تم (ایک مرد)	تَقِي	أَنْتَ
تم دونوں بچاتے ہو	تم (دو مرد/عورتیں)	تَقِيَانِ	أَنْتُمَا
تم سب مرد بچاتے ہو	تم (سب مرد)	تَقُوْنَ	أَنْتُمْ
تم ایک عورت بچاتی ہو	تم (ایک عورت)	تَقِيْنَ	أَنْتِ
تم دونوں عورتیں بچاتی ہو	تم (دو عورتیں)	تَقِيَانِ	أَنْتُمَا
تم سب عورتیں بچاتی ہو	تم (سب عورتیں)	يَقِيْنَ	أَنْتُنَّ
میں بچاتا/بچاتی ہوں	میں	أَقِي	أَنَا
ہم بچاتے ہیں	ہم	نَقِي	نَحْنُ

IMPERATIVE

الأمر والنهي

POSITIVE			NEGATIVE		
الضمیر	الفعل	ترجمہ	الضمیر	الفعل	ترجمہ
أَنْتَ	قِ	تم بچاؤ (مذکر واحد)	أَنْتَ	لَا تَقِي	تم مت بچاؤ (مذکر واحد)
أَنْتُمَا	قِيَا	تم دونوں بچاؤ	أَنْتُمَا	لَا تَقِيَا	تم دونوں مت بچاؤ
أَنْتُمْ	قُوا	تم سب بچاؤ (مذکر جمع)	أَنْتُمْ	لَا تَقُوا	تم سب مت بچاؤ (مذکر جمع)
أَنْتِ	قِي	تم بچاؤ (مؤنث واحد)	أَنْتِ	لَا تَقِي	تم مت بچاؤ (مؤنث واحد)
أَنْتُمَا	قِيَا	تم دونوں بچاؤ (مؤنث)	أَنْتُمَا	لَا تَقِيَا	تم دونوں مت بچاؤ (مؤنث)
أَنْتُنَّ	قِيْنَ	تم سب بچاؤ (مؤنث جمع)	أَنْتُنَّ	لَا يَقِيْنَ	تم سب مت بچاؤ (مؤنث جمع)

الجدول الإسنادي — الماضي

RELATIONAL MAPPING — PAST

هو	وہ (ایک مرد)
نِي	وَقَيْتَنِي اس نے مجھے بچایا
نَا	وَقَيْتَنَا اس نے ہمیں بچایا
كَ	وَقَيْتَكَ اس نے تمہیں (ایک مرد) بچایا
كُمَا	وَقَيْتَكُمَا اس نے تم دونوں کو بچایا
كُم	وَقَيْتَكُمْ اس نے تم سب (مردوں) کو بچایا
كِ	وَقَيْتَكِ اس نے تمہیں (ایک عورت) بچایا
كُنَّ	وَقَيْتُنَّ اس نے تم سب (عورتوں) کو بچایا
هُ	وَقَيْتَهُ اس نے اسے (ایک مرد) بچایا
هُمَا	وَقَيْتُهُمَا اس نے ان دونوں کو بچایا
هُمْ	وَقَيْتَهُمْ اس نے ان سب (مردوں) کو بچایا
هَا	وَقَيْتَهَا اس نے اسے (ایک عورت) بچایا
هُمَا	وَقَيْتُهُمَا اس نے ان دونوں عورتوں کو بچایا
هِنَّ	وَقَيْتَهُنَّ اس نے ان سب (عورتوں) کو بچایا

ہما (مذکر)	وہ (دو مرد)
نِي	وَقَيْتَانِي ان دو مردوں نے مجھے بچایا
نَا	وَقَيْتَانَا ان دو مردوں نے ہمیں بچایا
كَ	وَقَيْتَاكَ ان دو مردوں نے تمہیں (ایک مرد) بچایا
كُمَا	وَقَيْتَاكُمَا ان دو مردوں نے تم دونوں کو بچایا
كُم	وَقَيْتَاكُمْ ان دو مردوں نے تم سب (مردوں) کو بچایا
كَ	وَقَيْتَاكِ ان دو مردوں نے تمہیں (ایک عورت) بچایا
كُنَّ	وَقَيْتَاكُنَّ ان دو مردوں نے تم سب (عورتوں) کو بچایا
هُ	وَقَيْتَاهُ ان دو مردوں نے اسے (ایک مرد) بچایا
هُمَا	وَقَيْتَاهُمَا ان دو مردوں نے ان دونوں کو بچایا
هُمْ	وَقَيْتَاهُمْ ان دو مردوں نے ان سب (مردوں) کو بچایا
هَا	وَقَيْتَاهَا ان دو مردوں نے اسے (ایک عورت) بچایا
هِنَّ	وَقَيْتَاهُنَّ ان دو مردوں نے ان سب (عورتوں) کو بچایا

م	وہ (سب مرد)
نِي	ان سب مردوں نے مجھے بچایا
نَا	ان سب مردوں نے ہمیں بچایا
كَ	ان سب مردوں نے تمہیں (ایک مرد) بچایا
كَمَا	ان سب مردوں نے تم دونوں کو بچایا
كُمْ	ان سب مردوں نے تم سب (مردوں) کو بچایا
كَ	ان سب مردوں نے تمہیں (ایک عورت) بچایا
كُنَّ	ان سب مردوں نے تم سب (عورتوں) کو بچایا
هُ	ان سب مردوں نے اسے (ایک مرد) بچایا
هُمَا	ان سب مردوں نے ان دونوں کو بچایا
هُمْ	ان سب مردوں نے ان سب (مردوں) کو بچایا
هَا	ان سب مردوں نے اسے (ایک عورت) بچایا
هِنَّ	ان سب مردوں نے ان سب (عورتوں) کو بچایا

ہِ	وہ (ایک عورت)
نِي	اس ایک عورت نے مجھے بچایا
نَا	اس ایک عورت نے ہمیں بچایا
كَ	اس ایک عورت نے تمہیں (ایک مرد) بچایا
كَمَا	اس ایک عورت نے تم دونوں کو بچایا
كُمْ	اس ایک عورت نے تم سب (مردوں) کو بچایا
كَ	اس ایک عورت نے تمہیں (ایک عورت) بچایا
كُنَّ	اس ایک عورت نے تم سب (عورتوں) کو بچایا
هُ	اس ایک عورت نے اسے (ایک مرد) بچایا
هُمَا	اس ایک عورت نے ان دونوں کو بچایا
هُمْ	اس ایک عورت نے ان سب (مردوں) کو بچایا
هَا	اس ایک عورت نے اسے (ایک عورت) بچایا
هِنَّ	اس ایک عورت نے ان سب (عورتوں) کو بچایا

ہما (مؤنث)		وہ (دو عورتیں)
نِی	وَقَتَانِی	ان دو عورتوں نے مجھے بچایا
نَا	وَقَتَانَا	ان دو عورتوں نے ہمیں بچایا
ک	وَقَتَاکَ	ان دو عورتوں نے تمہیں (ایک مرد) بچایا
کَا	وَقَتَاکَا	ان دو عورتوں نے تم دونوں کو بچایا
کُم	وَقَتَاکُم	ان دو عورتوں نے تم سب (مردوں) کو بچایا
کِ	وَقَتَاکِ	ان دو عورتوں نے تمہیں (ایک عورت) بچایا
کُنَّ	وَقَتَاکُنَّ	ان دو عورتوں نے تم سب (عورتوں) کو بچایا
ہ	وَقَتَاهُ	ان دو عورتوں نے اسے (ایک مرد) بچایا
ہمَا	وَقَتَاهُمَا	ان دو عورتوں نے ان دونوں کو بچایا
ہم	وَقَتَاهُم	ان دو عورتوں نے ان سب (مردوں) کو بچایا
ہَا	وَقَتَاهَا	ان دو عورتوں نے اسے (ایک عورت) بچایا
ہنَّ	وَقَتَاهُنَّ	ان دو عورتوں نے ان سب (عورتوں) کو بچایا

ہن		وہ (سب عورتیں)
نِی	وَقِیْنِی	ان سب عورتوں نے مجھے بچایا
نَا	وَقِیْنَا	ان سب عورتوں نے ہمیں بچایا
ک	وَقِیْنِکَ	ان سب عورتوں نے تمہیں (ایک مرد) بچایا
کَا	وَقِیْنِکَا	ان سب عورتوں نے تم دونوں کو بچایا
کُم	وَقِیْنِکُم	ان سب عورتوں نے تم سب (مردوں) کو بچایا
کِ	وَقِیْنِکِ	ان سب عورتوں نے تمہیں (ایک عورت) بچایا
کُنَّ	وَقِیْنِکُنَّ	ان سب عورتوں نے تم سب (عورتوں) کو بچایا
ہ	وَقِیْنِہُ	ان سب عورتوں نے اسے (ایک مرد) بچایا
ہمَا	وَقِیْنِمَا	ان سب عورتوں نے ان دونوں کو بچایا
ہم	وَقِیْنِہم	ان سب عورتوں نے ان سب (مردوں) کو بچایا
ہَا	وَقِیْنِہَا	ان سب عورتوں نے اسے (ایک عورت) بچایا
ہنَّ	وَقِیْنِہُنَّ	ان سب عورتوں نے ان سب (عورتوں) کو بچایا

تم (ایک مرد)	أنت	تم دونوں (مرد/عورت)	أنتما
تم (ایک مرد) نے مجھے بچایا	وَقَيْتَنِي	تم دونوں نے مجھے بچایا	وَقَيْتَمَانِي
تم (ایک مرد) نے ہمیں بچایا	وَقَيْتَنَا	تم دونوں نے ہمیں بچایا	وَقَيْتَمَانَا
تم (ایک مرد) نے اسے (ایک مرد) بچایا	وَقَيْتَهُ	تم دونوں نے اسے (ایک مرد) بچایا	وَقَيْتَمَاهُ
تم (ایک مرد) نے ان دونوں کو بچایا	وَقَيْتَهُمَا	تم دونوں نے ان دونوں کو بچایا	وَقَيْتَهُمَا
تم (ایک مرد) نے ان سب (مردوں) کو بچایا	وَقَيْتَهُمْ	تم دونوں نے ان سب (مردوں) کو بچایا	وَقَيْتَهُمْ
تم (ایک مرد) نے اسے (ایک عورت) بچایا	وَقَيْتَهَا	تم دونوں نے اسے (ایک عورت) بچایا	وَقَيْتَمَاهَا
تم (ایک مرد) نے ان سب (عورتوں) کو بچایا	وَقَيْتِهِنَّ	تم دونوں نے ان سب (عورتوں) کو بچایا	وَقَيْتَمَاهُنَّ

تم سب (مرد)	أنتم	تم (ایک عورت)	أنتِ
تم سب (مردوں) نے مجھے بچایا	وَقَيْتُمُونِي	تم (ایک عورت) نے مجھے بچایا	وَقَيْتِنِي
تم سب (مردوں) نے ہمیں بچایا	وَقَيْتُمُونَا	تم (ایک عورت) نے ہمیں بچایا	وَقَيْتِنَا
تم سب (مردوں) نے اسے (ایک مرد) بچایا	وَقَيْتُمُوهُ	تم (ایک عورت) نے اسے (ایک مرد) بچایا	وَقَيْتِنَهُ
تم سب (مردوں) نے ان دونوں کو بچایا	وَقَيْتُمُوهُمَا	تم (ایک عورت) نے ان دونوں کو بچایا	وَقَيْتِنَهُمَا
تم سب (مردوں) نے ان سب (مردوں) کو بچایا	وَقَيْتُمُوهُمْ	تم (ایک عورت) نے ان سب (مردوں) کو بچایا	وَقَيْتِنَهُمْ
تم سب (مردوں) نے اسے (ایک عورت) بچایا	وَقَيْتُمُوَهَا	تم (ایک عورت) نے اسے (ایک عورت) بچایا	وَقَيْتِنَهَا
تم سب (مردوں) نے ان سب (عورتوں) کو بچایا	وَقَيْتُمُوهُنَّ	تم (ایک عورت) نے ان سب (عورتوں) کو بچایا	وَقَيْتِنَهُنَّ

تم سب (عورتیں)	أنتنَّ	میں	أنا
تم سب (عورتوں) نے مجھے بچایا	وَقَيْتِنِنِّي	میں نے تمہیں (ایک مرد) بچایا	وَقَيْتِكَ
تم سب (عورتوں) نے ہمیں بچایا	وَقَيْتِنِنْنَا	میں نے تم دونوں کو بچایا	وَقَيْتِكُمَا
تم سب (عورتوں) نے اسے (ایک مرد) بچایا	وَقَيْتِنِنَّهُ	میں نے تم سب (مردوں) کو بچایا	وَقَيْتِكُمْ
تم سب (عورتوں) نے ان دونوں کو بچایا	وَقَيْتِنِنَّهُمَا	میں نے تمہیں (ایک عورت) بچایا	وَقَيْتِكَ
تم سب (عورتوں) نے ان سب (مردوں) کو بچایا	وَقَيْتِنِنَّهُمْ	میں نے تم سب (عورتوں) کو بچایا	وَقَيْتِكُنَّ
تم سب (عورتوں) نے اسے (ایک عورت) بچایا	وَقَيْتِنِنَّهَا	میں نے اسے (ایک مرد) بچایا	وَقَيْتَهُ
تم سب (عورتوں) نے ان سب (عورتوں) کو بچایا	وَقَيْتِنِنَّهُنَّ	میں نے ان دونوں کو بچایا	وَقَيْتَهُمَا
		میں نے ان سب (مردوں) کو بچایا	وَقَيْتَهُمْ
		میں نے اسے (ایک عورت) بچایا	وَقَيْتَهَا
		میں نے ان سب (عورتوں) کو بچایا	وَقَيْتَهُنَّ

نَحْنُ	ہم	
كَ	وَقَيْنَاكَ	ہم نے تمہیں (ایک مرد) بچایا
كُمَا	وَقَيْنَاكُمَا	ہم نے تم دونوں کو بچایا
كُمُ	وَقَيْنَاكُمْ	ہم نے تم سب (مردوں) کو بچایا
كَ	وَقَيْنَاكِ	ہم نے تمہیں (ایک عورت) بچایا
كُنَّ	وَقَيْنَاكُنَّ	ہم نے تم سب (عورتوں) کو بچایا
هُ	وَقَيْنَاهُ	ہم نے اسے (ایک مرد) بچایا
هُمَا	وَقَيْنَاهُمَا	ہم نے ان دونوں کو بچایا
هُمْ	وَقَيْنَاهُمْ	ہم نے ان سب (مردوں) کو بچایا
هَا	وَقَيْنَاهَا	ہم نے اسے (ایک عورت) بچایا
هُنَّ	وَقَيْنَاهُنَّ	ہم نے ان سب (عورتوں) کو بچایا

الجدول الإسنادي — المضارع

RELATIONAL MAPPING — PRESENT

هو		وه (ایک مرد)
نِي	يَقِينِي	وہ مجھے بچاتا ہے
نَا	يَقِينَانَا	وہ ہمیں بچاتا ہے
كَ	يَقِينُكَ	وہ تمہیں (ایک مرد) بچاتا ہے
كُمَا	يَقِينُكُمَا	وہ تم دونوں کو بچاتا ہے
كُم	يَقِينُكُمْ	وہ تم سب (مردوں) کو بچاتا ہے
كَ	يَقِينُكَ	وہ تمہیں (ایک عورت) بچاتا ہے
كُنَّ	يَقِينُكُنَّ	وہ تم سب (عورتوں) کو بچاتا ہے
ه	يَقِيهِ	وہ اسے (ایک مرد) بچاتا ہے
هُمَا	يَقِيهِمَا	وہ ان دونوں کو بچاتا ہے
هُمْ	يَقِيهِمْ	وہ ان سب (مردوں) کو بچاتا ہے
هَا	يَقِيهَا	وہ اسے (ایک عورت) بچاتا ہے
هُمَا	يَقِيهِمَا	وہ ان دونوں عورتوں کو بچاتا ہے
هِنَّ	يَقِيَهُنَّ	وہ ان سب (عورتوں) کو بچاتا ہے

هيما (مذكر)		وه (دو مرد)
نِي	يَقِينَانِي	وہ دو مرد مجھے بچاتے ہیں
نَا	يَقِينَانَا	وہ دو مرد ہمیں بچاتے ہیں
كَ	يَقِينَانِكَ	وہ دو مرد تمہیں (ایک مرد) بچاتے ہیں
كُمَا	يَقِينَانُكُمَا	وہ دو مرد تم دونوں کو بچاتے ہیں
كُم	يَقِينَانُكُمْ	وہ دو مرد تم سب (مردوں) کو بچاتے ہیں
كَ	يَقِينَانِكَ	وہ دو مرد تمہیں (ایک عورت) بچاتے ہیں
كُنَّ	يَقِينَانُكُنَّ	وہ دو مرد تم سب (عورتوں) کو بچاتے ہیں
ه	يَقِيَاهُ	وہ دو مرد اسے (ایک مرد) بچاتے ہیں
هُمَا	يَقِيَاهُمَا	وہ دو مرد ان دونوں کو بچاتے ہیں
هُمْ	يَقِيَاهُمْ	وہ دو مرد ان سب (مردوں) کو بچاتے ہیں
هَا	يَقِيَاهَا	وہ دو مرد اسے (ایک عورت) بچاتے ہیں
هِنَّ	يَقِيَاهُنَّ	وہ دو مرد ان سب (عورتوں) کو بچاتے ہیں

هم	وہ (سب مرد)
نِي	وہ سب مرد مجھے بچاتے ہیں
نَا	وہ سب مرد ہمیں بچاتے ہیں
كَ	وہ سب مرد تمہیں (ایک مرد) بچاتے ہیں
كَمَا	وہ سب مرد تم دونوں کو بچاتے ہیں
كُم	وہ سب مرد تم سب (مردوں) کو بچاتے ہیں
كَ	وہ سب مرد تمہیں (ایک عورت) بچاتے ہیں
كُنَّ	وہ سب مرد تم سب (عورتوں) کو بچاتے ہیں
هُ	وہ سب مرد اسے (ایک مرد) بچاتے ہیں
هَمَا	وہ سب مرد ان دونوں کو بچاتے ہیں
هُمْ	وہ سب مرد ان سب (مردوں) کو بچاتے ہیں
هَا	وہ سب مرد اسے (ایک عورت) بچاتے ہیں
هِنَّ	وہ سب مرد ان سب (عورتوں) کو بچاتے ہیں

هي	وہ (ایک عورت)
نِي	وہ ایک عورت مجھے بچاتی ہے
نَا	وہ ایک عورت ہمیں بچاتی ہے
كَ	وہ ایک عورت تمہیں (ایک مرد) بچاتی ہے
كَمَا	وہ ایک عورت تم دونوں کو بچاتی ہے
كُم	وہ ایک عورت تم سب (مردوں) کو بچاتی ہے
كَ	وہ ایک عورت تمہیں (ایک عورت) بچاتی ہے
كُنَّ	وہ ایک عورت تم سب (عورتوں) کو بچاتی ہے
هُ	وہ ایک عورت اسے (ایک مرد) بچاتی ہے
هَمَا	وہ ایک عورت ان دونوں کو بچاتی ہے
هُمْ	وہ ایک عورت ان سب (مردوں) کو بچاتی ہے
هَا	وہ ایک عورت اسے (ایک عورت) بچاتی ہے
هِنَّ	وہ ایک عورت ان سب (عورتوں) کو بچاتی ہے

ہما (مؤنث)		وہ (دو عورتیں)
نِی	تَقِيَانِي	وہ دو عورتیں مجھے بچاتی ہیں
نَا	تَقِيَانَا	وہ دو عورتیں ہمیں بچاتی ہیں
كَ	تَقِيَاكَ	وہ دو عورتیں تمہیں (ایک مرد) بچاتی ہیں
كَمَا	تَقِيَاكُمْ	وہ دو عورتیں تم دونوں کو بچاتی ہیں
كُم	تَقِيَاكُمْ	وہ دو عورتیں تم سب (مردوں) کو بچاتی ہیں
كَ	تَقِيَاكَ	وہ دو عورتیں تمہیں (ایک عورت) بچاتی ہیں
كُنَّ	تَقِيَاكُنَّ	وہ دو عورتیں تم سب (عورتوں) کو بچاتی ہیں
هُ	تَقِيَاهُ	وہ دو عورتیں اسے (ایک مرد) بچاتی ہیں
هُمَا	تَقِيَاهُمَا	وہ دو عورتیں ان دونوں کو بچاتی ہیں
هُم	تَقِيَاهُمْ	وہ دو عورتیں ان سب (مردوں) کو بچاتی ہیں
هَا	تَقِيَاهَا	وہ دو عورتیں اسے (ایک عورت) بچاتی ہیں
هِنَّ	تَقِيَاهِنَّ	وہ دو عورتیں ان سب (عورتوں) کو بچاتی ہیں

هن		وہ (سب عورتیں)
نِی	يَقِيَانِي	وہ سب عورتیں مجھے بچاتی ہیں
نَا	يَقِيَانَا	وہ سب عورتیں ہمیں بچاتی ہیں
كَ	يَقِيَاكَ	وہ سب عورتیں تمہیں (ایک مرد) بچاتی ہیں
كَمَا	يَقِيَاكُمْ	وہ سب عورتیں تم دونوں کو بچاتی ہیں
كُم	يَقِيَاكُمْ	وہ سب عورتیں تم سب (مردوں) کو بچاتی ہیں
كَ	يَقِيَاكَ	وہ سب عورتیں تمہیں (ایک عورت) بچاتی ہیں
كُنَّ	يَقِيَاكُنَّ	وہ سب عورتیں تم سب (عورتوں) کو بچاتی ہیں
هُ	يَقِيَاهُ	وہ سب عورتیں اسے (ایک مرد) بچاتی ہیں
هُمَا	يَقِيَاهُمَا	وہ سب عورتیں ان دونوں کو بچاتی ہیں
هُم	يَقِيَاهُمْ	وہ سب عورتیں ان سب (مردوں) کو بچاتی ہیں
هَا	يَقِيَاهَا	وہ سب عورتیں اسے (ایک عورت) بچاتی ہیں
هِنَّ	يَقِيَاهِنَّ	وہ سب عورتیں ان سب (عورتوں) کو بچاتی ہیں

تم (ایک مرد)	أَنْتَ	تم دونوں (مرد/عورت)	أَنْتُمَا
تم (ایک مرد) مجھے بچاتے ہو	نِي	تم دونوں مجھے بچاتے ہو	نِي
تم (ایک مرد) ہمیں بچاتے ہو	نَا	تم دونوں ہمیں بچاتے ہو	نَا
تم (ایک مرد) اسے (ایک مرد) بچاتے ہو	هُ	تم دونوں اسے (ایک مرد) بچاتے ہو	هُ
تم (ایک مرد) ان دونوں کو بچاتے ہو	هُمَا	تم دونوں ان دونوں کو بچاتے ہو	هُمَا
تم (ایک مرد) ان سب (مردوں) کو بچاتے ہو	هُمْ	تم دونوں ان سب (مردوں) کو بچاتے ہو	هُمْ
تم (ایک مرد) اسے (ایک عورت) بچاتے ہو	هَا	تم دونوں اسے (ایک عورت) بچاتے ہو	هَا
تم (ایک مرد) ان سب (عورتوں) کو بچاتے ہو	هِنَّ	تم دونوں ان سب (عورتوں) کو بچاتے ہو	هِنَّ

تم سب (مرد)	أَنْتُمْ	تم (ایک عورت)	أَنْتِ
تم سب (مرد) مجھے بچاتے ہو	نِي	تم (ایک عورت) مجھے بچاتی ہو	نِي
تم سب (مرد) ہمیں بچاتے ہو	نَا	تم (ایک عورت) ہمیں بچاتی ہو	نَا
تم سب (مرد) اسے (ایک مرد) بچاتے ہو	هُ	تم (ایک عورت) اسے (ایک مرد) بچاتی ہو	هُ
تم سب (مرد) ان دونوں کو بچاتے ہو	هُمَا	تم (ایک عورت) ان دونوں کو بچاتی ہو	هُمَا
تم سب (مرد) ان سب (مردوں) کو بچاتے ہو	هُمْ	تم (ایک عورت) ان سب (مردوں) کو بچاتی ہو	هُمْ
تم سب (مرد) اسے (ایک عورت) بچاتے ہو	هَا	تم (ایک عورت) اسے (ایک عورت) بچاتی ہو	هَا
تم سب (مرد) ان سب (عورتوں) کو بچاتے ہو	هِنَّ	تم (ایک عورت) ان سب (عورتوں) کو بچاتی ہو	هِنَّ

تم سب (عورتیں)	أَنْتُنَّ	میں	أَنَا
تم سب (عورتیں) مجھے بچاتی ہو	نِي	میں تمہیں (ایک مرد) بچاتا/بچاتی ہوں	كَ
تم سب (عورتیں) ہمیں بچاتی ہو	نَا	میں تم دونوں کو بچاتا/بچاتی ہوں	كُمَا
تم سب (عورتیں) اسے (ایک مرد) بچاتی ہو	هُ	میں تم سب (مردوں) کو بچاتا/بچاتی ہوں	كُهُ
تم سب (عورتیں) ان دونوں کو بچاتی ہو	هُمَا	میں تمہیں (ایک عورت) بچاتا/بچاتی ہوں	كِ
تم سب (عورتیں) ان سب (مردوں) کو بچاتی ہو	هُمْ	میں تم سب (عورتوں) کو بچاتا/بچاتی ہوں	كُنَّ
تم سب (عورتیں) اسے (ایک عورت) بچاتی ہو	هَا	میں اسے (ایک مرد) بچاتا/بچاتی ہوں	هُ
تم سب (عورتیں) ان سب (عورتوں) کو بچاتی ہو	هِنَّ	میں ان دونوں کو بچاتا/بچاتی ہوں	هُمَا
		میں ان سب (مردوں) کو بچاتا/بچاتی ہوں	هُمْ
		میں اسے (ایک عورت) بچاتا/بچاتی ہوں	هَا
		میں ان سب (عورتوں) کو بچاتا/بچاتی ہوں	هِنَّ

نَحْنُ	ہم	
كَ	نَقِيكَ	ہم تمہیں (ایک مرد) بچاتے ہیں
كُمَا	نَقِيكُمَا	ہم تم دونوں کو بچاتے ہیں
كُمُ	نَقِيكُمُ	ہم تم سب (مردوں) کو بچاتے ہیں
كَ	نَقِيكَ	ہم تمہیں (ایک عورت) بچاتے ہیں
كُنَّ	نَقِيكُنَّ	ہم تم سب (عورتوں) کو بچاتے ہیں
هُ	نَقِيهٖ	ہم اسے (ایک مرد) بچاتے ہیں
هُمَا	نَقِيهِمَا	ہم ان دونوں کو بچاتے ہیں
هُمْ	نَقِيهِمْ	ہم ان سب (مردوں) کو بچاتے ہیں
هَا	نَقِيهَا	ہم اسے (ایک عورت) بچاتے ہیں
هُنَّ	نَقِيهِنَّ	ہم ان سب (عورتوں) کو بچاتے ہیں

USAGE EXAMPLES — PAST

مثالیں — ماضی

I

أَنَا وَقَيْتُ ابْنِي مِنَ الْبَرْدِ الشَّدِيدِ بِلِبَاسٍ دَافِيٍّ.
میں نے اپنے بیٹے کو گرم لباس سے شدید سردی سے بچایا۔

I protected my son from severe cold with warm clothing.

We

نَحْنُ وَقَيْنَا أَطْفَالَنَا مِنْ رُقَقَاءِ السُّوءِ بِالتَّرْبِيَةِ الصَّحِيحَةِ.
ہم نے اپنے بچوں کو صحیح تربیت سے برے ساتھیوں سے بچایا۔

We protected our children from bad companions through proper upbringing.

You (m)

أَنْتَ وَقَيْتَ بَنَاتِكَ مِنَ الْفِتَنِ بِالنُّصْحِ وَالتَّوْجِيهِ.
تم نے اپنی مسلسل محنت سے گھروالوں کو غربت سے بچایا۔

You protected your family from poverty through your diligent work.

You (f)

أَنْتِ وَقَيْتِ بَنَاتِكَ مِنَ الْفِتَنِ بِالنُّصْحِ وَالتَّوْجِيهِ.
تم نے نصیحت اور رہنمائی سے اپنی بیٹیوں کو فتنوں سے بچایا۔

You protected your daughters from temptations through advice and guidance.

He

هُوَ وَقَى نَفْسَهُ مِنَ الْحَرَامِ بِالصِّيَامِ وَالتَّقْوَى.
اس نے روزے اور تقویٰ سے اپنے آپ کو حرام سے بچایا۔

He protected himself from the forbidden through fasting and piety.

She

هِيَ وَقَتْ أَهْلَهَا مِنَ الْأَمْرَاضِ بِالنَّظَافَةِ وَالتَّغْذَاءِ السَّلِيمِ.
اس نے صفائی اور صحت مند غذا سے اپنے گھروالوں کو بیماریوں سے بچایا۔

She protected her family from diseases through cleanliness and healthy food.

They two

هُمَا وَقَيَا الْقَرْيَةَ مِنَ الْفَيْضَانِ بِنَاءِ سَدِّ قَوِيٍّ.
ان دونوں نے مضبوط بند بنا کر گاؤں کو سیلاب سے بچایا۔

They both protected the village from the flood by building a strong dam.

They (m)

هُمْ وَقَوْا وَطَنَهُمْ مِنَ الْأَعْدَاءِ بِالشَّجَاعَةِ وَالتَّضْحِيَةِ.
انہوں نے بہادری اور قربانی سے اپنے وطن کو دشمنوں سے بچایا۔

They protected their homeland from enemies with bravery and sacrifice.

You all (m)

أَتَمُّ وَقَيْتُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْبِدْعِ بِنَشْرِ السُّنَّةِ.
تم سب نے سنت پھیلا کر مسلمانوں کو بدعتوں سے بچایا۔

You all protected Muslims from innovations by spreading the Sunnah.

They (f)

هُنَّ وَقَيْنَ أَوْلَادَهُنَّ مِنَ الْجَهْلِ بِتَعْلِيمِهِمُ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ.
انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن و سنت سکھا کر جہالت سے بچایا۔

They protected their children from ignorance by teaching them the Quran and Sunnah.

USAGE EXAMPLES — PRESENT

مثالیں — مضارع

I

أَنَا أَقِي نَفْسِي مِنَ الذُّنُوبِ بِذِكْرِ اللَّهِ وَالِاسْتِغْفَارِ.
میں اللہ کے ذکر اور استغفار سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہوں۔

I protect myself from sins through the remembrance of Allah and seeking forgiveness.

We

نَحْنُ نَقِي بُيُوتَنَا مِنَ الْمُنْكَرَاتِ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ.
ہم نیکی کا حکم دے کر اپنے گھروں کو برائیوں سے بچاتے ہیں۔

We protect our homes from evil by enjoining good.

You (m)

أَنْتَ تَقِي أَبْنَاءَكَ مِنَ الْفَسَادِ بِمُرَاقَبَتِهِمْ وَتَوْجِيهِمْ.
تم اپنے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی سے انہیں فساد سے بچاتے ہو۔

You protect your children from corruption by monitoring and guiding them.

You (f)

أَنْتِ تَقِينَ صِحَّةَ عَائِلَتِكَ بِالْعِذَاءِ الصَّحِيِّ وَالنَّظَافَةِ.
تم صحت مند غذا اور صفائی سے اپنے خاندان کی صحت بچاتی ہو۔

You protect your family's health with healthy food and cleanliness.

He

هُوَ يَقِي الْمَجْتَمَعَ مِنَ الْجَرَائِمِ بِنَشْرِ الْعِلْمِ وَالتَّوَعُّفِ.
وہ علم اور آگاہی پھیلا کر معاشرے کو جرائم سے بچاتا ہے۔

He protects society from crimes by spreading knowledge and awareness.

She

هِيَ تَقِي أَوْلَادَهَا مِنَ الشَّاشَاتِ بِتَقْدِيمِ بَدَائِلٍ نَافِعَةٍ.
وہ مفید تبدلات دے کر اپنے بچوں کو اسکرین سے بچاتی ہے۔

She protects her children from screens by providing beneficial alternatives.

They two

هُمَا يَقِيَانِ الطُّلَّابَ مِنَ الْإِنْحِرَافِ بِالْقُدْوَةِ الْحَسَنَةِ.
وہ دونوں اچھی مثال سے طلباء کو انحراف سے بچاتے ہیں۔

They both protect students from deviation through a good example.

They (m)

هُم يُقُونُ الْحَيَّ مِنَ السَّرِقَاتِ بِنِظَامِ الْحِرَاسَةِ.
وہ حفاظتی نظام سے محلے کو چوریوں سے بچاتے ہیں۔

They protect the neighbourhood from thefts with the security system.

You all (m)

أَتَمُّ تَقُونَ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا كَمَا أَمَرَ اللَّهُ.
تم سب اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاتے ہو جیسا کہ اللہ نے حکم دیا۔

You all protect yourselves and your families from the Fire as Allah commanded.

They (f)

هُنَّ يَقِينَ أَوْلَادَهُنَّ مِنَ الْأَفْكَارِ الْمُنْحَرِفَةِ بِالتَّعْلِيمِ الدِّينِيِّ.
وہ دینی تعلیم سے اپنے بچوں کو منحرف خیالات سے بچاتی ہیں۔

They protect their children from deviant ideas through religious education.

VOCABULARY

المفردات

الْوَقَايَةُ

حفاظت / بچاؤ

protection / prevention

التَّقْوَى

تقویٰ / خدا خوفی

piety / God-consciousness

الْحِمَايَةُ

حفاظت

protection / defense

<p>الْفِتْنَةُ فتنة</p> <p>temptation / trial</p>	<p>الْبِدْعَةُ بدعت</p> <p>innovation (in religion)</p>	<p>الْمُنْكَرُ برائی</p> <p>evil / wrong</p>
<p>الْإِنْخِرَافُ انحراف / بھٹکنا</p> <p>deviation</p>	<p>السَّدُّ بند / ڈیم</p> <p>dam / barrier</p>	<p>الشَّجَاعَةُ بہادری</p> <p>bravery / courage</p>
<p>التَّضَحِّيَةُ قربانی</p> <p>sacrifice</p>	<p>الْفَيْضَانُ سیلاب</p> <p>flood</p>	<p>الْجَهْلُ بہالت</p> <p>ignorance</p>
<p>التَّوَعُّيَةُ آگاہی</p> <p>awareness</p>	<p>الْمُرَاقَبَةُ نگرانی</p> <p>monitoring / supervision</p>	<p>الْبَدَائِلُ تبادلات</p> <p>alternatives</p>